

Urdu (اردو)

تعارفی رسومات

صلیب کی علامت

باپ ، اور بیٹے اور روح القدس کے نام

پر
آمین
سلام

مار خداوند یسوع مسیح کا فضل

، اور خدا کی محبت ، اور روح

القدس کی میل جول آپ سب کے

ساتھ رہیں

اور اپنی روح کے ساتھ

تذلیل کا ایکٹ

بھائیو (بھائیو اور بہنیں) ، آئیے ہم اپنے

گناہوں کو تسلیم کریں ، اور اس

طرح مقدس اسرار کو منانے کے لئے

خود کو تیار کریں

میں اللہ تعالیٰ سے اعتراف کرتا ہوں

اور آپ کے لئے ، میرے بھائیو اور بہنیں

، کہ میں نے بہت گناہ کیا ، میرے

خیالات میں اور میرے الفاظ میں ،

میں نے کیا کیا اور میں کیا کرنے

میں ناکام رہا ہوں ، میری غلطی کے

ذریعے ، میری غلطی کے ذریعے ،

میری انتہائی تکلیف دہ غلطی کے

ذریعے ؛ لہذا میں مبارک مریم کو

میشد کے ویرگین سے پوچھتا ہوں ،

تمام فرشتے اور سنت ، اور آپ ،

میرے بھائیو اور بہنیں ، میرے لئے

خداوند مار خدا سے دعا کرنا

اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے ، مار

گناہوں کو معاف کرے ، اور ہمیں

لازوال زندگی میں لائیں

آمین

کیری

Latin (latine)

Introductory Rituum

Signum crucis

In nomine Patris, et Filii et Spiritus
sancti.

Amen

Salutatio

Gratia Domini nostri Iesu Christi, et
caritas Dei, et communio Spiritus
Sanctus Et cum omnibus vobis.

Et cum spiritu tuo.

Actus paenitential

Fratres (fratribus et sororibus),
agnoscamus peccata nostra, Et sic
praeparare nos celebramus sacra
mysteriis.

Confiteor omnipotentis Dei Et ad vos

fratres mei Peccavi quia In

cogitationibus meis et in verbis: In

quod ego feci, et in quod ego defuit

facere, per culpa, per culpa, Per

maxillam culpam; Ideo peto beatus

Maria semper Virgo, Omnes angeli et

sanctorum Et tu, fratres mei, Ad orare

pro me ad Dominum Deum nostrum.

May omnipotens Deus miserere nobis:

Dimitte nobis peccata nostra, et ad

vitam aeternam.

Amen

Kyrie

Urdu (اردو)

رب رحم کر

رب رحم کر

مسیح، رحم کرو۔

مسیح، رحم کرو۔

رب رحم کر

رب رحم کر

گلوریا

سب سے زیادہ خدا کی شان، اور
زمین پر اچھے لوگوں کے لیے امن
م تیری تعریف کرتے ہیں، م آپ کو
برکت دیتے ہیں، م آپ کو پسند
کرتے ہیں، م تیری تسبیح کرتے ہیں،
م تیری عظیم شان کے لیے تیرا شکر
ادا کرتے ہیں، خُداوند خُدا، آسمانی
بادشاہ، خدا، قادر مطلق باپ
خداوند یسوع مسیح، اکلوتا بیٹا،
خُداوند خُدا، خُدا کا بیٹا، باپ کا بیٹا،
آپ دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہیں،
م پر رحم فرما آپ دنیا کے گناہوں
کو دور کرتے ہیں، ہماری دعا قبول
کرو تم باپ کے داہنے ہاتھ بیٹھو،
م پر رحم فرما۔ آپ کے لیے اکیلا ہی
مقدس ہیں، صرف تُو ہی رب

صرف آپ ہی اعلیٰ ترین ہیں

حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح

القدس کے ساتھ، خدا باپ کے جلال

میں آمین

جمع کریں

میں نمازی پڑھنا دو۔

آمین

کلام کی کٹائی

پہلا پڑھنا

رب کا کلام

خدا کا شکر

ذمہ داری زبور

دوسری پڑھنا

Latin (latine)

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Christe, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

Gloria

Gloria in excelsis Deo. et in terra pax
hominibus bonae voluntatis. laudamus
te benedicimus tibi adoramus te,
glorificamus te; gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam Domine
Deus, Rex caelestis, Domine Deus Pater
omnipotens. Domine Jesu Christe,
Unigenite Fili unigenite, alleluia.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
tollis peccata mundi, miserere nobis.
tollis peccata mundi, suscipe orationem
nostram; Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis. Quoniam tu solus
Sanctus. tu solus Dominus tu solus
Altissimus; Iesus Christus, cum Sancto
Spiritu, in gloria dei patris. Amen.

Colligo

Oremus.

Amen.

Liturgia verbi

Primum Lectio

Verbum Domini.

Deo gratias.

Responsorial Psalm

Lectio secundi

Urdu (اردو)

رب کا کلام
خدا کا شکر
انجیل

رب آپ کے ساتھ و
اور اپنی روح کے ساتھ
کے مطابق مقدس انجیل سے ایک N
پڑھنا

ا رب، تیری شان
خداوند کی انجیل
خداوند یسوع مسیح آپ کی ستائش
کریں
ایمان کا پیشہ

میں ایک خدا کو مانتا ہوں، قادر
مطلق باپ، آسمان اور زمین کا بنا،
والا، ظاہر اور پوشیدہ تمام چیزوں
میں سے میں ایک خداوند یسوع
مسیح پر یقین رکھتا ہوں، خدا کا
اکلوتا بیٹا، تمام عمروں سے پہلے باپ
سے پیدا ہوا خدا سے خدا، روشنی
سے روشنی، سچے خدا سے سچے خدا،
پیدا ہوا، نہیں بنایا گیا، باپ کے ساتھ
مطابقت رکھتا اُس کے ذریعے
تمام چیزیں بنی تھیں ہمارے آدمیوں
کے لیے اور ہماری نجات کے لیے و
آسمان سے نیچے آیا، اور روح القدس
کے ذریعے کنواری مریم کا اوتار تھا،
اور انسان بن گیا۔ ہماری خاطر و
پونٹیس پیلطس کے تحت مصلوب
ہوا، اس کی موت ہوئی اور اس
دفن کیا گیا اور تیسرے دن دوبارہ جی
اُٹھا صحیفوں کے مطابق و آسمان
پر چڑھ گیا اور باپ کے دائیں ہاتھ
پر بیٹھا و پھر جلال میں آئے گا
زندہ اور مرد کا فیصلہ کرنا اور اس
کی بادشاہی کی کوئی انتہا نہ ہو
گی میں روح القدس پر یقین رکھتا
ہوں، خداوند، زندگی دینے والا، جو

Latin (latine)

Verbum Domini.
Deo gratias.
Evangelium

Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Lectio sancti Evangelii secundum N.

Gloria tibi, Domine
Evangelium Domini.
Laus tibi, Domine Jesu Christe.

Professio fidei

Credo in unum Deum; Patrem
omnipotentem, factorem caeli et
terrae; omnium visibilium et
invisibilium. Credo in unum Dominum
Jesum Christum, Unigenitus Dei Filius,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deus de Deo, etc. Lumen de Lumine;
Deum verum de Deo vero. genitum,
non factum, consubstantialem Patri;
per ipsum facta sunt omnia. Qui
propter nos homines et propter
nostram salutem descendit de caelis.
et incarnatus est de Spiritu Sancto ex
Maria Virgine. et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio
Pilato, passus et sepultus est; et
resurrexit tertia die secundum
scripturas. ascendit in caelum et sedet
ad dexteram Patris. iterum venturus
est cum gloria ut iudicare vivos et
mortuos cuius regni non erit finis.
Credo in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem; qui ex Patre Filioque
procedit. qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur. qui locutus

Urdu (اردو)

باپ اور بیٹہ سے نکلتا ، جو باپ اور
بیٹہ کے ساتھ سجد اور جلالی ،
جس نے نبیوں کے ذریعے کلام کیا
میں ایک، مقدس، کیتھولک اور
رسولی چرچ پر یقین رکھتا ہوں
میں گناہوں کی معافی کے لیے ایک
پینتسم کا اقرار کرتا ہوں اور میں
مردوں کے جی اٹھنے کا منتظر ہوں
اور آؤ، والی دنیا کی زندگی آمین
homily

عالمگیر دعا

م رب سے دعا کرتے ہیں

ا رب، ہماری دعا سن

یوکرست کی لیٹورجی

آفرٹری

خدا ہمیشہ کے لیے مبارک ہو

دعا کرو، بھائیو (بھائیو اور بھائیو)،

میری اور تمہاری قربانی ہو سکتا

اللہ کو قبول ہو قادر مطلق باپ۔

رب آپ کی قربانی قبول فرمائے اس

کے نام کی تعریف اور جلال کے لیے ،

ہماری بھلائی کے لیے اور اس کے تمام

مقدس چرچ کی بھلائی

آمین

یوکرستک دعا

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

اپنے دلوں کو اٹھاؤ

م ان کو رب کی طرف اٹھاتے ہیں

آئیے ہم رب اپنے خدا کا شکر ادا

کریں

یہ صحیح اور منصفانہ

پاک، مقدس، پاک رب الافواج

آسمان و زمین تیرے جلال سے معمور

ہیں حسنہ اعلیٰ میں مبارک ہو

Latin (latine)

est per prophetas. et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum et exspecto
resurrectionem mortuorum et vita
sseculi venturi. Amen.

Homilia

Oratio universalis

Oremus Dominum.

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.

Liturgia Eucharistiae

Offertorium

Benedictus Deus in secula.

Orate, fratres, ut sacrificium meum et
tua placeat deo; Pater omnipotens.

Suscipiat Dominus sacrificium de
manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, pro nobis bonum et bonum
totius ecclesie sue sancte.

Amen.

Prex eucharistica

Dominus vobiscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Sursum corda.

Habemus ad Dominum.

Grátias agámus Dómino Deo nostro.

R. Dignum et justum est.

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus
Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra
gloria tua. Hosanna in excelsis.

Urdu (اردو)

جو خداوند ک نام پر آتا حسد
اعلیٰ میں

ایمان کا راز

م تیری موت کا اعلان کرتے ہیں ا
رب! اور اپنی قیامت کا دعویٰ کریں
جب تک آپ دوبارہ نہ آئیں یا: جب
م یہ روٹی کھاتے ہیں اور یہ پیالہ
پیتے ہیں، م تیری موت کا اعلان
کرتے ہیں، ا رب، جب تک آپ دوبارہ
نہ آئیں یا: ہمیں بچا، دنیا کی نجات
دند، آپ کی صلیب اور قیامت کی
طرف سے آپ نے ہمیں آزاد کیا
آمین

اجتماعی رسم

نجات دند ک حکم پر اور خدائی
تعلیم ک ذریعہ تشکیل دیا گیا، م
یہ کذ کی جسارت کرتے ہیں:

مار باپ، جو آسمان پر ہیں،
مقدس تیرا نام؛ تیری بادشاہی
آؤ، آپ کی مرضی پوری ہو جائے
گی زمین پر جیسا کہ آسمان میں
آج کے دن میں ہماری روز کی
روٹی دے، اور ہماری خطائیں معاف
فرما، جیسا کہ ہم ان لوگوں کو
معاف کرتے ہیں جو ہمارے خلاف گنا
کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نہ
ڈال، لیکن ہمیں برائی سے بچا

میں بربرائی سے نجات دے، ا رب،
م دعا کرتے ہیں، م ربانی سے
ہمارے دنوں میں امن عطا فرما، ک
تیری رحمت سے ہم ہمیشہ گنا سے
آزاد ہو سکتے ہیں اور تمام
پریشانیوں سے محفوظ جیسا کہ ہم
مبارک امید کا انتظار کر رہے ہیں
اور ہمارے نجات دند، یسوع مسیح
کی آمد

بادشاہی کے لیے، طاقت اور جلال آپ
کا اب اور ہمیشہ کے لئے۔

Latin (latine)

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Mysterium fidei.

Mortem tuam annuntiamus, Domine, et
profiteor tuam resurrectionem donec
venias. Vel: Hunc panem cum
manducamus et calicem hunc bibimus,
mortem tuam, Domine, annuntiamus;
donec venias. Vel: Salvos nos fac,
Redemptor mundi; per crucem et
resurrectionem tuam nos liberasti.

Amen.

Ritus Communionis

Ad mandatum Salvatoris et divina
institutione formati audemus dicere;

Pater noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum; Adveniat
regnum tuum, fiat voluntas tua in terra
sicut in caelo. Panem nostrum
cotidianum da nobis hodie et dimitte
nobis debita nostra; sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris. et ne
nos inducas in tentationem. sed libera
nos a malo.

Libera nos, quaesumus, Domine, ab
omni malo; in diebus nostris pacem
concede propitius; ut per
misericordiam tuam adiuvente; ut
semper a peccato immunes simus et
ab omni tribulatione secunda;
exspectamus beatam spem et
adventus Salvatoris nostri Jesu Christi.

Pro regno; tua est potestas et gloria
nunc et semper.

Urdu (اردو)

خداوند یسوع مسیح، جس نے آپ کو رسولوں سے کہنا: امن میں آپ کو چھوڑنا، اپنا امن میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے گناہوں کو مت دیکھو لیکن آپ کو چرچ کے ایمان پر، اور فضل سے اس امن اور اتحاد عطا فرمائے، آپ کی مرضی کے مطابق۔ جو ہمیشہ اور ابد تک زندہ اور حکومت کرتے ہیں

آمین

خداوند کی سلامتی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے

اور اپنی روح کے ساتھ آئیے ایک دوسرے کو امن کا نشان پیش کریں

خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہو، ہم پر رحم فرما۔ خدا کے برے، تم دنیا کے گناہوں کو دور کرتے ہو، ہمیں امن عطا فرما۔

خدا کے برے کو دیکھو، اس کو دیکھو جو دنیا کے گناہوں کو لے جاتا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو برے کے عشائیے کے لیے بلائے گئے ہیں

اے رب، میں اس لائق نہیں ہوں کہ تم میری چہت کے نیچے داخل ہو، لیکن صرف لفظ کے ساتھ اور میری جان ٹھیک ہو جائے گی

مسیح کا جسم (خون)

آمین

میں نماز پڑھتا ہوں۔

آمین

اختتامی رسومات

برکت

رب آپ کے ساتھ ہو

اور اپنی روح کے ساتھ

Latin (latine)

Domine Jesu Christe qui dixit Apostolis vestris: Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis; ne respicias peccata nostra. sed in fide Ecclesiae vestrae; eique pacem et unitatem largire digneris pro voluntate tua. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Amen.

Pax Dómini sit semper vobíscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Signum pacis offeramus invicem.

Agnus Dei, tollis peccata mundi. miserere nobis. Agnus Dei, tollis peccata mundi. miserere nobis. Agnus Dei, tollis peccata mundi. pacem nobis dones.

ecce agnus dei ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.

Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum; sed tantum dic verbo et sanabitur anima mea.

Corpus Christi.

Amen.

Oremus.

Amen.

Concluditur ritus

benedictio

Dominus vobíscum.

R. Et cum spiritu tuo.

Urdu (اردو)

قادر مطلق خدا آپ کو خوش رکھ ،
باپ، اور بیٹا، اور روح القدس

آمین

برطرفی

آگ بڑھو، اجتماع ختم ہو گیا یا:

جاؤ اور خداوند کی انجیل کا اعلان

کرو یا: سکون سے جاؤ، اپنی زندگی

سے خداوند کی تمجید کرو یا:

سکون سے جاؤ

خدا کا شکر .

Latin (latine)

Benedicat vos omnipotens Deus; Gloria
Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Amen.

Dimissio

Egredere, missa est. Vel: Ite et nuntiate

evangelium Domini. Vel: Ite in pace,

glorificantes Dominum in vita tua. Vel:

Vade in pace.

Deo gratias.

massineverylanguage.com

© 2022 Copyright Calgorithms LLC